



Bank Alfalah
The Way Forward

Amex Credit Card Summary Box / Key Fact Statement (Jul - Dec 2026)

ایمیکس کریڈٹ کارڈ سمری باکس / کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ جولائی تا دسمبر 2026

The information contained in this box summarises key features of the Credit Card and is not intended to replace any terms and condition of the product. It is very important that you should carefully read the full terms and conditions before agreeing and signing this information.

اس باکس میں موجود معلومات کریڈٹ کارڈ کی اہم معلومات کا خلاصہ ہیں اور اس کا مقصد اس پروڈکٹ کی شرائط و ضوابط میں سے کسی کی جگہ لینا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ ان شرائط سے متفق ہونے اور اس دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے تمام شرائط و ضوابط کو احتیاط سے پڑھ لیں۔

Information	وضاحت	Explanation
Joining Fee/ Annual Fee جوائننگ فیس/سالانہ فیس	Card Type کارڈ کی قسم Gold گولڈ Supplementary Cards سپلیمنٹری کارڈ Annual Fee/Joining Fee سالانہ فیس/جوائننگ فیس PKR 13,500/- روپے 13,500 PKR 7,000/- روپے 7,000 - Annual fee is charged upon card activation and annually on the anniversary date کارڈ فعال ہونے پر سالانہ فیس وصول کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہر سال مکمل ہونے پر وصول کی جاتی ہے۔ - 1st year's annual fee is waived for Premier Banking customers only. پہلے سال کی سالانہ فیس صرف پریمیئر بینکنگ صارفین کے لیے معاف ہے۔ Customer's Signature کسٹمر کے دستخط	
Annualised Percentage Rate (APR) سالانہ شرح فیصد (APR)	45% APR (APR) فیصد 45 APR = $\frac{\text{Markup or Profit Paid for the Period}}{\text{Outstanding Principal Amount}} \times \frac{365}{\text{No. of Days}} \times 100$ مقررہ مدت کے لیے ادا کی گئی مارک اپ یا منافع کی رقم بقایا اصل رقم 100 X $\frac{365}{\text{دنوں کی تعداد}}$ X $\frac{\text{بقایا اصل رقم}}{\text{مارک اپ یا منافع کی رقم}}$ = APR Example 1 (30-day cycle): Customer has a credit limit of Rs 100,000. His outstanding principal amount is Rs. 60,000 and he has paid markup/profit of Rs. 2,220 for a billing period of 30 days. مثال 1 (30 دن سائیکل) صارف کے کریڈٹ کارڈ کی حد 100,000 روپے ہے۔ اس کی بقایا اصل رقم روپے 60,000 ہے اور اس نے 30 دن کے بلنگ پیریڈ کے لیے 2,220 روپے بطور مارک اپ/منافع ادا کیا ہے۔ Outstanding Principal Amount = Rs. 60,000 بقایا اصل رقم = 60,000 روپے Markup / Profit Paid = Rs. 2,220 ادا کیا گیا مارک اپ/منافع = 2,220 روپے Billing Period = 30 days بلنگ پیریڈ = 30 دن APR Calculation: APR = $(2,220 / 60,000) \times (365 / 30) \times 100 \approx 45\%$ Example 2 (31-day cycle): Customer has a credit limit of Rs. 100,000. His outstanding principal amount is Rs. 75,000 and he has paid markup/profit of Rs. 2,860 for a billing period of 31 days. مثال 2 (31 دن سائیکل) صارف کے کریڈٹ کارڈ کی حد 100,000 روپے ہے۔ اس کی بقایا اصل رقم روپے 75,000 ہے اور اس نے 31 دن کے بلنگ پیریڈ کے لیے 2,860 روپے بطور مارک اپ/منافع ادا کیا ہے۔ Outstanding Principal Amount = Rs. 75,000 بقایا اصل رقم = 75,000 روپے Markup / Profit Paid = Rs. 2,860 ادا کیا گیا مارک اپ/منافع = 2,860 روپے Billing Period = 31 days بلنگ پیریڈ = 31 دن APR Calculation: APR = $(2,860 / 75,000) \times (365 / 31) \times 100 \approx 45\%$ The APR varies from 45.00% to 26.00% for various transactions. مختلف ٹرانزیکشنز کے لیے APR 45.00% فیصد تک ہے۔ 26.00% فیصد تک ہے۔ Credit Card transactions (Cash + Retail) @ 45.00% APR کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز (کیش + ریٹیل) بحساب 45.00% فیصد APR Balance Transfer Facility 26.00% APR بیلنس ٹرانسفر کی سہولت 26.00% فیصد APR	

Customer's Signature کسٹمر کے دستخط

Markup Rates مارک اپ ریٹس	Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	Introductory Rate تعارفی ریٹ	Monthly Rate ماہانہ ریٹ	Annual Rate سالانہ ریٹ												
	Cash Advance کیش ایڈوانسسز	45.00% p.a. for 12 months 12 ماہ کے لیے بحساب 45.00 فیصد APR	3.75% per month 3.75 فیصد ماہانہ	45.00% per annum 45.00 فیصد سالانہ												
	Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	45.00% p.a. for 12 months 12 ماہ کے لیے بحساب 45.00 فیصد APR	3.75% per month 3.75 فیصد ماہانہ	45.00% per annum 45.00 فیصد سالانہ												
	Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشن	26% p.a. for 12 months 12 ماہ کے لیے بحساب 26 فیصد APR	2.16% per month 2.16 فیصد ماہانہ	26% per annum 26 فیصد سالانہ												
	For further details on markup rates refer to Schedule of Charges at www.bankalfalah.com مارک اپ ریٹس کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے برائے مہربانی www.bankalfalah.com پر شیڈول آف بینک چارجز ملاحظہ کیجئے															
Markup Free Period مارک اپ سے پاک مدت	Up to 51 days (maximum) from statement date to next due date • Cash advance and Balance Transfer Facility transactions are excluded from the markup free period (51 دن تک (زیادہ سے زیادہ) • بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز مارک اپ سے پاک مدت میں شامل نہیں ہیں															
Markup Charging Information مارک اپ کی وصولی سے متعلق معلومات	No markup would be charged on transactions, if the payments are made in full on or before the payment due date for each billing cycle. Otherwise, the period over which markup is charged for different credit card transactions will be mentioned as below: اگر ہر بلنگ سائیکل کے لیے پوری ادائیگی واجب الادا تاریخ پر یا اس سے قبل کی جا رہی ہے تو کوئی مارک اپ چارج نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر مختلف کریڈٹ کارڈز ٹرانزیکشنز کے لیے مارک اپ کی چارجنگ مدت ذیل میں درج ہے۔ <table><tr><td>Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم</td><td>From از</td><td>Until تا</td></tr><tr><td>Cash Advance کیش ایڈوانسسز</td><td>Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ</td><td>0.12% daily unless paid in full 0.12 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے</td></tr><tr><td>Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن</td><td>Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ</td><td>Paid in full مکمل ادائیگی</td></tr><tr><td>Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز</td><td>Date debited to customers account کسٹمر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے کی تاریخ</td><td>Paid in full مکمل ادائیگی</td></tr></table> For further details on markup rates refer to Schedule of Charges at www.bankalfalah.com مارک اپ ریٹس کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے برائے مہربانی www.bankalfalah.com پر شیڈول آف بینک چارجز ملاحظہ کیجئے				Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	From از	Until تا	Cash Advance کیش ایڈوانسسز	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	0.12% daily unless paid in full 0.12 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے	Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی	Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز	Date debited to customers account کسٹمر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی
Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	From از	Until تا														
Cash Advance کیش ایڈوانسسز	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	0.12% daily unless paid in full 0.12 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے														
Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی														
Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز	Date debited to customers account کسٹمر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی														
Payments Allocation ادائیگیوں کا تعین	• In case of full payment of the total outstanding amount spent on the credit card within the billing date, no markup will be charged اگر کریڈٹ کارڈ پر پوری خرچ کی گئی رقم کی مکمل ادائیگی تاریخ ادائیگی پر یا اس سے قبل کی جا رہی ہے تو کوئی مارک اپ ریٹس چارج نہیں ہے۔ • In case of partial payments of the outstanding amount spent on the credit card. The payment will be subject to the following grid as per the payment sequence کریڈٹ کارڈ پر خرچ کی گئی رقم کی جزوی ادائیگی کی صورت میں ادائیگی کی ترتیب کے لحاظ سے مندرجہ ذیل گریڈ سے مشروط ہوگی <table><tr><td>Payment Sequence ادائیگی کی ترتیب</td><td>Payments Category ادائیگی کی کیٹیگری</td></tr><tr><td>1</td><td>Billed Service Charges بل کیے گئے سروس چارجز</td></tr><tr><td>2</td><td>Billed Cash Advance بل کیا گیا ایڈوانس</td></tr><tr><td>3</td><td>Billed Retail بل کیا گیا ریٹیل</td></tr><tr><td>4</td><td>Billed Balance Transfer بل کیا گیا بیلنس ٹرانسفر</td></tr></table>				Payment Sequence ادائیگی کی ترتیب	Payments Category ادائیگی کی کیٹیگری	1	Billed Service Charges بل کیے گئے سروس چارجز	2	Billed Cash Advance بل کیا گیا ایڈوانس	3	Billed Retail بل کیا گیا ریٹیل	4	Billed Balance Transfer بل کیا گیا بیلنس ٹرانسفر		
Payment Sequence ادائیگی کی ترتیب	Payments Category ادائیگی کی کیٹیگری															
1	Billed Service Charges بل کیے گئے سروس چارجز															
2	Billed Cash Advance بل کیا گیا ایڈوانس															
3	Billed Retail بل کیا گیا ریٹیل															
4	Billed Balance Transfer بل کیا گیا بیلنس ٹرانسفر															
Minimum Monthly Repayments کم از کم ماہانہ ادائیگی	Whichever is higher جو بھی زیادہ ہو - Rs. 500, or 500 روپے یا - 1% of the principal balance plus the minimum payment amount of any previous statement of account unpaid, excess outstanding balance over the credit limit in the card account, total billed mark-up, total billed fees and charges and SBS instalment, if any اصل بیلنس کا ایک فیصد بمع کسی سابقہ غیر ادا شدہ اسٹیٹمنٹ کی کم از کم ادائیگی کی رقم، کارڈ اکاؤنٹ کی کریڈٹ کی حدمیں اضافی واجب الادا بیلنس، کل بل کیا گیا مارک اپ، کل بل کی گئی فیس اور چارجز اور SBS کی قسط، اگر ہو 'If you make a minimum payment, markup will be charged on the remaining balance after due date, so it will cost more and take longer to clear the balance. Markup free period is also lost if any balance of the previous month's bill is outstanding.' کم از کم ادائیگی کی صورت میں بقیہ واجب الادا رقم پر ادائیگی کی حتمی تاریخ گزرنے کے بعد مارک اپ وصول کیا جائے گا، اس طرح اس کی لاگت زیادہ ہوگی اور بیلنس کلیئر ہونے میں زیادہ وقت لگے گا۔ گذشتہ ماہ کا بیلنس باقی ہونے کی صورت میں مارک اپ سے پاک مدت بھی ضائع ہو جائے گی۔															

Card Limits کارڈ کی حد	Card Type کارڈ کی قسم	Minimum Card Limit کارڈ کی کم سے کم حد	Maximum Card Limit کارڈ کی زیادہ سے زیادہ حد	Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد
	Gold گولڈ	Up to Rs. 250,000/- روپے تک 250,000	Up to Rs. 7,000,000/- روپے تک 7,000,000	50% of the limit حد کا 50 فیصد
Charges چارجز	Pay via Bank Alfalah Credit Card Alfa App & Web بینک الفلاح کریڈٹ کارڈ، الفالہ ایپ اور ویب کے ذریعے ادائیگی		0.75% + FED of Transaction Amount ٹرانزیکشن رقم کا 0.75 فیصد + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (FED)	
	POS Decline Transaction Fee (International Transactions) پی او ایس مسترد شدہ ٹرانزیکشن فیس (بین الاقوامی ٹرانزیکشنز)		Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن	
	E-Commerce Decline Transaction Fee ای کامرس میں ٹرانزیکشن مسترد ہونے کی فیس		Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن	
	Card Maintenance Charges کارڈ مینٹیننس چارجز		Rs. 1,000/- روپے 1,000	
	Cash Advance کیش ایڈوانس		Rs. 1,200/- or 3% of cash advance amount, whichever is higher 1,200 روپے یا کیش ایڈوانس کا 3.0 فیصد، جو بھی زیادہ ہو	
	Step by Step/Credit on Phone to SBS Processing Fee اسٹیپ بائی اسٹیپ / کریڈٹ آن فون سے SBS پروسیسنگ فیس		Minimum 2.5% or Rs 1,500 whichever is higher, to maximum up to 25% + FED 1,500 روپے یا ٹرانزیکشن کی رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ 25 فیصد + ایف ای ڈی تک	
	BTF Processing Fee: بی ٹی ایف پروسیسنگ فیس		Rs. 600/- or 2.5% of transaction amount, whichever is higher 600 روپے یا ٹرانزیکشن رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو	
	Utility Bill Payment یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی		Rs. 50/- per utility bill (below 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) Rs. 65/- per utility bill (above 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) 25 روپے روپے فی یوٹیلیٹی (بل بذریعہ ATM) 50 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے کم، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفالہ) 65 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے زائد، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفالہ)	
	Foreign Transactions through Foreign Merchants غیر ملکی مرچنٹس کی جانب سے فارن ٹرانزیکشنز		4.5% or Rs. 125/- which ever is higher. Third currency transactions will be first converted into US Dollars as per rate quoted under arrangement with Amex Card. Cross border transaction fee will also be charged as per Amex Card rules (Same to be applied for DCC transactions) زیادہ سے زیادہ 4.5 فیصد یا 125 روپے۔ تیسری کرنسی ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے ایمیکس کارڈ کے تحت بنائی گئی شرح کے مطابق امریکی ڈالر میں تبدیل کیا جائے گا۔ کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بھی ایمیکس کارڈ کے (قواعد کے مطابق وصول کی جائے گی) ڈی سی سی ٹرانزیکشنز کے لیے بھی اسی کا اطلاق کیا جائے گا	
	Card Replacement Fee کارڈ کی تبدیلی کے چارجز		PKR 1,500 1,500 روپے	
	Copy of Statement Fee اسٹیٹمنٹ کی نقل کی فیس		None کوئی نہیں	
	Balance Enquiry بیلنس کی معلومات		None from Bank Alfalah's ATM Rs. 9.34/- per enquiry from 1-Link member bank ATM Rs. 25/- per enquiry from Visa member bank ATM بینک الفلاح کے ATM سے کوئی نہیں ون-لنک ممبر بینک کے ATM سے 9.34 روپے فی انکوائری ویزا ممبر بینک کے ATM سے 25 روپے فی انکوائری	

Default Charges ڈیفالٹ چارجز	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="400 35 767 136"> Late Payment Charges تاخیر سے ادائیگی کے چارجز </td><td data-bbox="767 35 1487 136"> Rs. 2,500/- روپے 2,500 </td></tr> <tr> <td data-bbox="400 136 767 297"> Cheque Return Charges/ Rejected Auto Pay Service fee چیک کی واپسی / آٹوپے سروس مسترد ہونے کے چارجز </td><td data-bbox="767 136 1487 297"> Rs. 1,200/- روپے 1,200 </td></tr> </table>	Late Payment Charges تاخیر سے ادائیگی کے چارجز	Rs. 2,500/- روپے 2,500	Cheque Return Charges/ Rejected Auto Pay Service fee چیک کی واپسی / آٹوپے سروس مسترد ہونے کے چارجز	Rs. 1,200/- روپے 1,200
Late Payment Charges تاخیر سے ادائیگی کے چارجز	Rs. 2,500/- روپے 2,500				
Cheque Return Charges/ Rejected Auto Pay Service fee چیک کی واپسی / آٹوپے سروس مسترد ہونے کے چارجز	Rs. 1,200/- روپے 1,200				
Cancellation Charges منسوخی کے چارجز	No cancellation charges منسوخی کے کوئی چارجز نہیں				
Renewal Charges تجدید کے چارجز	No renewal charges تجدید کے کوئی چارجز نہیں				
Expiry معیاد کا خاتمہ	5 years from the date of card issuance کارڈ کے اجراء کی تاریخ سے 5 سال				
Insurance Coverage انشورنس کوریج	Credit Cover Premium: 0.85% of outstanding amount کریڈٹ کورپریمیم واجب الادا رقم کا 0.85 فیصد • Upon customer request, the Bank will provide coverage on the credit card outstanding amount for the reason of temporary disability or prolonged illness up to 45 days and in case of death کسٹمر کی درخواست پر بینک کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے عارضی معذوری یا 45 دن تک کی طویل بیماری کی صورت میں کوریج فراہم کرے گا۔ اور انتقال کی صورت میں For more details or to subscribe, call 021-111-226-111 مزید تفصیلات یا سبسکرائب کرنے کیلئے - 021 111-226-111 پر کال کیجئے۔				
How can you get assistance or make a complaint? آپ رہنمائی کیسے حاصل کریں گے یا شکایت کیسے درج کروائیں گے؟	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="400 846 927 1149"> Contact Information: Bank Alfalah, Complaint Management Unit, 6th Floor, State Life Building no. 1, Il Chundrigarh Road, Karachi. Helpline: (+92 21) 111-225-111 Email: contactus@bankalfalah.com Website: https://www.bankalfalah.com/ Sunwai Link: https://sunwai.sbp.org.pk/ </td><td data-bbox="927 846 1487 1149"> رابطے کی تفصیلات بینک الفلاح لمیٹڈ کمپلینٹ مینجمنٹ یونٹ، چھٹی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 1، آئی ائی چندریگر روڈ، کراچی۔ ہیلپ لائن: (+92 21) 111-225-111 ای میل: contactus@bankalfalah.com ویب سائٹ: https://www.bankalfalah.com/ سنوائی لنک: https://sunwai.sbp.org.pk/ </td></tr> </table>	Contact Information: Bank Alfalah, Complaint Management Unit, 6th Floor, State Life Building no. 1, Il Chundrigarh Road, Karachi. Helpline: (+92 21) 111-225-111 Email: contactus@bankalfalah.com Website: https://www.bankalfalah.com/ Sunwai Link: https://sunwai.sbp.org.pk/	رابطے کی تفصیلات بینک الفلاح لمیٹڈ کمپلینٹ مینجمنٹ یونٹ، چھٹی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 1، آئی ائی چندریگر روڈ، کراچی۔ ہیلپ لائن: (+92 21) 111-225-111 ای میل: contactus@bankalfalah.com ویب سائٹ: https://www.bankalfalah.com/ سنوائی لنک: https://sunwai.sbp.org.pk/		
Contact Information: Bank Alfalah, Complaint Management Unit, 6th Floor, State Life Building no. 1, Il Chundrigarh Road, Karachi. Helpline: (+92 21) 111-225-111 Email: contactus@bankalfalah.com Website: https://www.bankalfalah.com/ Sunwai Link: https://sunwai.sbp.org.pk/	رابطے کی تفصیلات بینک الفلاح لمیٹڈ کمپلینٹ مینجمنٹ یونٹ، چھٹی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 1، آئی ائی چندریگر روڈ، کراچی۔ ہیلپ لائن: (+92 21) 111-225-111 ای میل: contactus@bankalfalah.com ویب سائٹ: https://www.bankalfalah.com/ سنوائی لنک: https://sunwai.sbp.org.pk/				
Contact-less Transaction کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن	Please note that for contact-less transactions up to PKR 3,000/- , customer may simply tap their card on a contact-less-enabled POS terminal without inserting PIN. Furthermore, single transaction limits for NFC (Contact-less) transactions are set by the acquiring bank (merchant's bank) and may vary across different regions. براہ کرم نوٹ کریں کہ 3,000 روپے تک کی کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن کے لیے صارف محض اپنا کارڈ کانٹیکٹ لیس یعنی پی او ایس سہولت والی مشین پر بغیر پین درج کیے ٹیپ کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن کی فی ٹرانزیکشن حد ایکوائرنگ بینک (مرچنٹ کا بینک) مقرر کرتا ہے، جو مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔				
EOL ای او ایل	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="400 1440 480 1597"> Fee فیس </td><td data-bbox="480 1440 1487 1597"> 2% of the over limit amount owing to customer oriented spending or Rs. 1,600/-, whichever is higher. Excess Over Limit shall be repayable in full in the next monthly bill payment. کسٹمر کی جانب سے خرچ کرنے پر اوور لمٹ رقم کا 2 فیصد یا 1600 روپے سے جو بھی زیادہ ہو۔ زیادہ اوور لمٹ اگلے بل میں مکمل واجب الادا ہوگی۔ </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="400 1597 1487 1991"> EOL means Excess Over Limit, which refers to a cardholder's account that has surpassed its assigned/approved credit limit. Excess Over Limit (EOL) charges will apply as per the bank's SOBC if your outstanding balance exceeds your credit limit until the outstanding is adjusted below the assigned limit. EOL Charges will also apply on recurring transactions/legitimate transactions irrespective of your enrollment in the EOL facility. For your convenience Bank Alfalah offers you the facility of going over limit up to 10% on your credit card. EOL سے مراد 'اضافی حد سے تجاوز' ہے، یعنی ایسا کارڈ ہولڈر جس کا اکاؤنٹ اس کی مقررہ/منظور شدہ کریڈٹ حد سے تجاوز کر چکا ہو۔ اگر آپ کا بقایا بیلنس کریڈٹ حد سے تجاوز کرے تو (EOL) چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز (SOBC) کے مطابق لاگو ہوں گے۔ یہ چارجز اس وقت تک نافذ رہیں گے جب تک بقایا رقم مقررہ حد سے کم نہ ہو جائے۔ یہ چارجز بار بار ہونے والی یا باقاعدہ ٹرانزیکشنز پر بھی لاگو ہوں گے، خواہ آپ نے EOL سہولت میں شمولیت اختیار کی ہو یا نہیں۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر بینک الفلاح آپ کو کریڈٹ کارڈ پر 10 فیصد تک سہولت فراہم کرتا ہے۔ </td></tr> </table>	Fee فیس	2% of the over limit amount owing to customer oriented spending or Rs. 1,600/-, whichever is higher. Excess Over Limit shall be repayable in full in the next monthly bill payment. کسٹمر کی جانب سے خرچ کرنے پر اوور لمٹ رقم کا 2 فیصد یا 1600 روپے سے جو بھی زیادہ ہو۔ زیادہ اوور لمٹ اگلے بل میں مکمل واجب الادا ہوگی۔	EOL means Excess Over Limit, which refers to a cardholder's account that has surpassed its assigned/approved credit limit. Excess Over Limit (EOL) charges will apply as per the bank's SOBC if your outstanding balance exceeds your credit limit until the outstanding is adjusted below the assigned limit. EOL Charges will also apply on recurring transactions/legitimate transactions irrespective of your enrollment in the EOL facility. For your convenience Bank Alfalah offers you the facility of going over limit up to 10% on your credit card. EOL سے مراد 'اضافی حد سے تجاوز' ہے، یعنی ایسا کارڈ ہولڈر جس کا اکاؤنٹ اس کی مقررہ/منظور شدہ کریڈٹ حد سے تجاوز کر چکا ہو۔ اگر آپ کا بقایا بیلنس کریڈٹ حد سے تجاوز کرے تو (EOL) چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز (SOBC) کے مطابق لاگو ہوں گے۔ یہ چارجز اس وقت تک نافذ رہیں گے جب تک بقایا رقم مقررہ حد سے کم نہ ہو جائے۔ یہ چارجز بار بار ہونے والی یا باقاعدہ ٹرانزیکشنز پر بھی لاگو ہوں گے، خواہ آپ نے EOL سہولت میں شمولیت اختیار کی ہو یا نہیں۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر بینک الفلاح آپ کو کریڈٹ کارڈ پر 10 فیصد تک سہولت فراہم کرتا ہے۔	
Fee فیس	2% of the over limit amount owing to customer oriented spending or Rs. 1,600/-, whichever is higher. Excess Over Limit shall be repayable in full in the next monthly bill payment. کسٹمر کی جانب سے خرچ کرنے پر اوور لمٹ رقم کا 2 فیصد یا 1600 روپے سے جو بھی زیادہ ہو۔ زیادہ اوور لمٹ اگلے بل میں مکمل واجب الادا ہوگی۔				
EOL means Excess Over Limit, which refers to a cardholder's account that has surpassed its assigned/approved credit limit. Excess Over Limit (EOL) charges will apply as per the bank's SOBC if your outstanding balance exceeds your credit limit until the outstanding is adjusted below the assigned limit. EOL Charges will also apply on recurring transactions/legitimate transactions irrespective of your enrollment in the EOL facility. For your convenience Bank Alfalah offers you the facility of going over limit up to 10% on your credit card. EOL سے مراد 'اضافی حد سے تجاوز' ہے، یعنی ایسا کارڈ ہولڈر جس کا اکاؤنٹ اس کی مقررہ/منظور شدہ کریڈٹ حد سے تجاوز کر چکا ہو۔ اگر آپ کا بقایا بیلنس کریڈٹ حد سے تجاوز کرے تو (EOL) چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز (SOBC) کے مطابق لاگو ہوں گے۔ یہ چارجز اس وقت تک نافذ رہیں گے جب تک بقایا رقم مقررہ حد سے کم نہ ہو جائے۔ یہ چارجز بار بار ہونے والی یا باقاعدہ ٹرانزیکشنز پر بھی لاگو ہوں گے، خواہ آپ نے EOL سہولت میں شمولیت اختیار کی ہو یا نہیں۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر بینک الفلاح آپ کو کریڈٹ کارڈ پر 10 فیصد تک سہولت فراہم کرتا ہے۔					

Note:

- Apart from those mentioned, all bank service charges will be applicable as per Bank Alfalah's prevailing Schedule of Charges.
- All applicable taxes/levies and other government charges on all above charges or otherwise will be payable by the applicant.

نوٹ: - مندرجہ بالا چارجز کے علاوہ تمام بینک سروس چارجز بینک الفلاح کے مروجہ شیڈول آف چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے۔ تمام لاگو ٹیکسز/لیویز اور دیگر سرکاری چارجز جو مذکورہ بالا چارجز پر لاگو ہوں یا دیگر درخواست گزار کی جانب قابل ادائیگی ہوں گے۔

By signing this document:

I confirm that I have carefully read and fully understood the contents herein.

I acknowledge receipt of a copy of the Bank Alfalah Key Fact Statement for AMEX Credit Card.

میں نے اس دستاویز کو بغور پڑھ لیا ہے: اور میں دستخط کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے موجود مواد کو احتیاط سے پڑھا اور پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ میں یہ بھی تصدیق کرتا ہوں کہ AMEX کریڈٹ کارڈ کے لیے بینک الفلاح کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ کی ایک کاپی وصول کر لی ہے۔

Customer's Signature and Date

کسٹمر کے دستخط اور تاریخ

Authorised Banker's Signature, Stamp and Date

بینک کے مجاز افسر کے دستخط، مہر اور تاریخ

*SOC = Schedule Of Charges

*p.m. = per month

*p.a. = per annum